

## پیشگی ووٹنگ 7 اکتوبر 2022 سے شروع ہو رہی ہے!

برامپٹن، آن (27 ستمبر 2022) برامپٹن میونسپل اینڈ اسکول بورڈ کے انتخابات برائے 2022 کے لیے پیشگی ووٹنگ کا عمل بروز جمعہ، مورخہ 7 اکتوبر سے شروع ہو گا۔ اکتوبر کے مہینے میں پانچ دنوں کے لیے پیشگی ووٹنگ ہو گی۔

پیشگی ووٹنگ 7، 8، 9، 14 اور 15 اکتوبر 2022 کو منعقد کی جائے گی۔ اس کے تاریخوں، مقامات اور اوقات کی مکمل فہرست ذیل میں موجود ہے۔ ووٹرز اپنی رہائش سے قریب ترین پیشگی ووٹنگ کا مقام تلاش کرنے کے لیے [سٹی کی ویب سائٹ](#) پر موجود [انٹریکٹو ٹول](#) کو استعمال کر سکتے ہیں۔

### پیشگی ووٹنگ کے مقامات

#### • جمعہ، 7 اکتوبر کو دن 12 تا شام 8 بجے تک

○ برامپٹن سٹی ہال، 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ڈبلیو (Brampton City Hall, 2 Wellington St W)

#### • ہفتہ، 8 اکتوبر اور اتوار، 9 اکتوبر کو صبح 10 تا شام 5 بجے تک

○ برامپٹن سٹی ہال، 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ڈبلیو (Brampton City Hall, 2 Wellington St W)

○ کیسی کیمپبل کمیونٹی سنٹر 1050 سینڈل ووڈ پارک وے ڈبلیو (Cassie Campbell Community Centre, )

(1050 Sandalwood Pkwy W)

○ گور میڈوز کمیونٹی سنٹر، 10150 دی گور میڈوز روڈ (Gore Meadows Community Centre, 10150 )

(The Gore Rd)

#### • جمعہ، 14 اکتوبر کو دن 12 تا شام 8 بجے تک اور ہفتہ 15 اکتوبر کو صبح 10 تا شام 5 بجے تک

○ برامپٹن سٹی ہال، 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ڈبلیو (Brampton City Hall, 2 Wellington St W)

○ کیسی کیمپبل کمیونٹی سنٹر 1050 سینڈل ووڈ پارک وے ڈبلیو (Cassie Campbell Community Centre, )

(1050 Sandalwood Pkwy W)

○ سنچری گارڈنز ریکرینیشن سنٹر، 340 ووڈن اسٹریٹ ای (Century Gardens Recreation Centre, 340 )

(Vodden St E)

○ ارنزکلف ریکرینیشن سنٹر، 44 ایسٹ بورن ڈرائیو (Earncliffe Recreation Centre, 44 Eastbourne Dr)

○ گور میڈوز کمیونٹی سنٹر، 10150 دی گور میڈوز روڈ (Gore Meadows Community Centre, 10150 )

(The Gore Rd)

○ گرین برائر سنٹر، 1100 سنٹرل پارک ڈرائیو (Greenbriar Recreation Centre, 1100 Central Park Dr)

○ جم آرچ ڈیکن ریکرینیشن سنٹر، 292 کونیسٹوگا ڈرائیو (Jim Archdekin Recreation Centre, 292 )

(Conestoga Dr)

○ سیوو میکس سپورٹس سنٹر، 1495 سینڈل ووڈ پارک وے ای (Save Max Sports Centre, 1495 )

(Sandalwood Pkwy E)

○ سینٹ جیسٹا مارٹو کیتھولک ایلیمنٹری سکول، 40 فیلو فیلڈ روڈ (St. Jacinta Marto Catholic Elementary )

(School, 40 Fallowfield Rd)

○ سوسن فینل اسپورٹسپلیکس، 500 رے لاء سن بولیورڈ (Susan Fennell Sportsplex, 500 Ray Lawson )

(Blvd)

پیشگی ووٹنگ کی کچھ تاریخیں تھینکس گونگ کے ویکینڈ پر آتی ہیں، تاکہ تمام ووٹرز کے لیے ووٹ دینے کو آسان بنایا جا سکے، بشمول اہل طلباء، جو لانگ ویکینڈ کے دوران گھر پر موجود ہوں۔

اضافی شہ سرخیاں

- ووٹ دینے کے لیے، اپنا نام اور برامپٹن کا پتہ ظاہر کرنے والی کوئی شناختی دستاویز اور کینیڈا پوسٹ میل کے ذریعے موصول کردہ ووٹر نوٹس کسی بھی ایڈواس ووٹنگ کے مقام پر لائیں۔
- اگر آپ کو ایک ووٹر نوٹس نہیں ملا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹرز لسٹ پر نہ ہوں، لیکن آپ کو ووٹنگ کے مقام پر فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو لازمی طور پر مطلوبہ شناخت لانی چاہیے۔
- اگر آپ ووٹرز لسٹ پر ڈالے جانی کی درخواست کی یا اپنی معلومات کو آن لائن اپ ڈیٹ کیا ہے، تو آپ کو ووٹنگ کی جگہ اپنی شناختی دستاویز لازمی طور پر لانی چاہیے۔
- پیشگی ووٹنگ کے تمام مقامات پر معذور افراد کے لیے قابل استعمال ووٹنگ یونٹ استعمال کے لیے موجود ہے۔
- اگر آپ ووٹنگ ڈے پر پیشگی ووٹنگ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، تو پراکسی ووٹنگ کے بارے میں مزید جانیں۔
- ووٹ ڈالنے کا دن بروز پیر، 24 اکتوبر 2022 ہے۔ اس سال دیوالی اور بانڈی چھوڑ دیوس کے تہوار بھی 24 اکتوبر بروز پیر کو آ رہے ہیں۔
- 24 اکتوبر کو، آپ اپنے وارڈ کے اندر انتخابات کے کسی بھی مقام پر ووٹ دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے وارڈ کے مقامات کی فہرست سٹی کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔
- ووٹ دینے کے حوالے سے دیگر سوالات کے لیے سٹی کی ویب سائٹ کے FAQ والے حصے سے رجوع کریں۔

### اقتباس

"ووٹنگ کا عمل ہمارے شہر اور ہمارے مستقبل کی تشکیل میں مدد فراہم کرنے کا ایک اہم موقع ہوتا ہے اور ہم تمام اہل ووٹرز سے 2022 کے برامپٹن میونسپل اور اسکول بورڈ کے انتخابات میں ووٹ دینے کی گزارش کرتے ہیں۔ اس سال ووٹنگ ڈے، دیوالی اور بندی چھوڑ دیواس ایک ہی دن پر آ رہے ہیں۔ سٹی قبل از وقت ووٹ دینے والے تمام ووٹروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ پیشگی ووٹنگ کے دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ ان کے لیے یہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ شرکت کریں اور اپنے شہر کی تشکیل میں مدد دیں!"

- پیٹر فے، سٹی کلرک اور ریٹرننگ آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)